

دی ہینیک آف دی قرآن کے مستقل باب میں قرآن کا انگریزی ترجمہ قریب قریب تفہیم القرآن کے خطوط پر پیش کیا گیا ہے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ قرآن کے مروجہ انگریزی ترجموں میں جو بنیادی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ اس کوشش سے ہو جائے گا، بشرطیکہ یہ سمیت آزما کام جاری رکھا جائے پھر نبی صلعم کی چند مختصر احادیث کا ترجمہ سامنے آتا ہے پھر دو مقالات شریک ہیں اور دونوں بامقصد ہیں۔ سوالات و جوابات کا صفحہ بہت دلچسپ اور مفید معلوم ہوتا ہے۔

ہر اشاعت میں چند صفحات اردو تحریروں کے لیے بھی وقف ہیں۔ یہ حدت ہے تو مفید، مگر وہ تہی قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ مختصر سی ضخامت کے جریدے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے سے نہ ایک کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں نہ دوسرے کے۔ دوسرے یہ کہ انگریزی حوالہ طبقے اور اردو حوالہ طبقے کے ذوق یا نکل جداگانہ ہیں ان دونوں کے تقاضوں کو ایک ہی جریدے میں پورا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر حال ہم اس کوشش کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔

مکاتیب حضرت مولانا شاہ محمد الیاسؒ | مرتبہ: جناب مولانا سید ابوالحسن صاحب ندوی۔ ناشر: کتب خانہ انجمن ترقی اردو۔ جامع مسجد۔ دہلی۔ قیمت مجلد ۸۰۔ غیر مجلد ۷۰۔

یہ مجموعہ ہے مولانا محمد الیاس مرحوم کے بعض مکاتیب کا جو مرحوم نے اپنے زعماد اردو دستوں کے نام وقتاً فوقتاً لکھے۔ ان خطوط میں مولانا کی فکر بھی مچھکتی ہے اور دردمندانہ اسلامی جذبات بھی۔ ہماری رائے میں ان خطوط میں افادیت کے بڑے قیمتی پہلو موجود ہیں اور ان سے علماء اور عوام کو استفادہ کرنا چاہیے۔

رسید کتب

۱) اسلامی زندگی | مرتبہ مولانا احتشام الحق صاحب کاندھلوی۔ شائع کردہ انجمن ترقی اردو۔ جامع مسجد دہلی قیمت ۲۰۔
 ۲) رہنمائے قاعدہ | مولفہ جناب سلیم عباد اللہ صاحب۔ شائع کردہ۔ اردو اکیڈمی سندھ (کراچی) قیمت ۵۔
 ۳) اردو زبان کا قاعدہ | مولفہ سیدہ مصطفیٰ حسین صاحبہ نقوی۔ مطبوعہ لاہور آرٹ پریس۔ قیمت ۲۔
 ۴) طہنیۃ النبی کی آخری راستہ | شائع کردہ مجلس سیرت مدنی۔ باقیمت۔

۵) ماہنامہ "زمانہ" | خواندہ بالغوں کے لیے محکمہ تعلیمات پنجاب کا جریدہ۔ چند سالانہ پھر پورے نی پورے ۸۔